

مخصوص ایام میں عورت کے لیے بازو پر تعویذ باندھنے کا حکم

مجیب: مفتی محمد قاسم عطاری

فتویٰ نمبر: FSD-9070

تاریخ اجراء: 24 صفر المظفر 1446ھ / 30 اگست 2024ء

دارالافتاء اہلسنت

(دعوت اسلامی)

سوال

کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین اس مسئلے کے بارے میں کہ بعض اوقات خواتین نے اپنے بازو پر ایسا تعویذ باندھا ہوتا ہے، جس میں قرآنی آیات لکھی ہوتی ہیں، کیا جب انہیں ماہواری آئے، تو اس تعویذ کو اتارنا ضروری ہے؟

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الْجَوَابُ بِعَوْنِ الْمَلِکِ الْوَهَّابِ اَللّٰهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَالصَّوَابِ

اگر بازو پر باندھا جانے والا تعویذ چمڑے، ریگزیں یا شاپرو وغیرہ میں اچھی طرح لپیٹ کر باندھا گیا ہے اور عموماً بازو پر تعویذ اسی طرح باندھا جاتا ہے، تو ایسے تعویذ کو حالت حیض میں بازو پر باندھے رکھنے یا گلے میں ڈالنے کی اجازت ہے۔ یہی حکم حالت جنابت یا حالت نفاس میں تعویذ باندھنے کا ہے، البتہ اگر تعویذ کسی چمڑے یا دوسری چیز میں لپیٹا ہوا نہ ہو، تو پھر اسے بازو پر باندھنے کی ہرگز اجازت نہیں۔

”خزانة الاكمل“ میں ہے: ”لاباس بان يشد الجنب والحائض التمام والتعاويد على العضد اذا كان ملفوفاً“ ترجمہ: جنبی اور حائضہ کو بازو پر تعویذ باندھنے میں کوئی حرج نہیں، بشرطیکہ تعویذ کو کسی چیز میں لپیٹا گیا

ہو۔ (خزانة الاكمل، جلد 01، صفحہ 193، مطبوعہ دارالکتب العلمیہ، بیروت)

علامہ ابن عابدین شامی دمشقی رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ (وصال: 1252ھ / 1836ء) نے لکھا: ”لاباس بان يشد

الجنب والحائض التعاويد على العضد اذا كانت ملفوفة“ ترجمہ: جنبی اور حائضہ کو بازو پر تعویذ باندھنے

میں کوئی حرج نہیں، بشرطیکہ تعویذ کو کسی چیز میں لپیٹا گیا ہو۔ (رد المحتار مع درمختار، جلد 21، کتاب الحظر والاباحة، صفحہ

417، مطبوعہ دار الثقافة والتراث، دمشق)

صدر الشريعة مفتی محمد امجد علی اعظمی رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ (وصال: 1367ھ / 1947ء) لکھتے ہیں: ”جنبی و حائض و نفسا بھی تعویذات کو گلے میں پہن سکتے ہیں، بازو پر باندھ سکتے ہیں، جبکہ غلاف میں ہوں۔“ (بہار شریعت، جلد 3، حصہ 16، صفحہ 420، مطبوعہ مکتبۃ المدینہ)

وَاللّٰهُ اَعْلَمُ عَزَّوَجَلَّ وَرَسُوْلُهُ اَعْلَمُ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاٰلِهِ وَسَلَّمَ



Darul-Ifta Ahlesunnat (Dawat-e-Islami)



www.daruliftaahlesunnat.net



[daruliftaahlesunnat](https://www.facebook.com/daruliftaahlesunnat)



[DaruliftaAhlesunnat](https://www.youtube.com/DaruliftaAhlesunnat)



[Dar-ul-ifta AhleSunnat](https://play.google.com/store/apps/details?id=com.daruliftaahlesunnat)



feedback@daruliftaahlesunnat.net